

## 45191- بالوں کو سرخ اور زرد خناب لگانے کا حکم

### سوال

کیا بالوں کو سرخ یا زرد رنگ لگانا جائز ہے، اور کون سے رنگ لگانے ممنوع ہیں؟  
کیا جن نوجوانوں کے بال ابھی سفید نہیں ہوئے وہ صرف بطور زیبائش ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے اپنے بال رنگے چاہے اس کے بال سفید نہ بھی ہوئے ہوں تو کیا اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا؟

### پسندیدہ جواب

#### اول:

بالوں کو سیاہ رنگ کے علاوہ باقی سب رنگ لگانا جائز ہے، اس میں کسی بوڑھے اور نوجوان کا کوئی فرق نہیں، اور بال سفید ہونے سے قبل ہی بالوں کو رنگنے میں کوئی حرج نہیں۔  
مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جات میں درج ذیل سوال مذکور ہے:

میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بالوں کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا تو بال سیاہ یا سرخ ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک اور چیز استعمال کرتے ہیں جن سے گھنٹھریا لے بال نرم و ملائم ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے، اور کیا نوجوان بھی بوڑھے کے حکم میں آتا ہے؟

کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا:

والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد:

سیاہ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کے ساتھ بالوں کو رنگنے میں کوئی حرج نہیں، اور اسی طرح گھنٹھریا لے بالوں کو نرم اور ملائم کرنے کے لیے کریم وغیرہ استعمال کرنی جائز ہے۔  
اور اس میں نوجوان اور بوڑھے شخص کا حکم ایک ہی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر رنگنے اور بال نرم کرنے والا مادہ استعمال کرنے میں کوئی نقصان و ضرر نہ ہو، اور وہ چیز ظاہر و پاک اور مباح بھی ہو۔

لیکن بالوں کو خالص سیاہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ تو مردوں کے لیے اور نہ ہی عورتوں کے لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"اس سفیدی کو تبدیل کرو اور سیاہی سے اجتناب کرو"

اللہ تعالیٰ ہی توفیق نصیب کرنے والا ہے۔ انتہی۔

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (5/168).

فتویٰ میں مذکورہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کردہ ہے دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر (2102).

بالوں کو سیاہ کرنے کی ممانعت کی دلیل ابوداؤد کی درج ذیل حدیث بھی ہے :

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"آخری زمانے میں ایک قوم سیاہ خضاب استعمال کریں گے جس طرح کہ کبوتر کا سینہ (پوٹا) ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائیں گے"

سنن ابوداؤد حدیث نمبر (4212) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابوداؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

سرخ اور زرد رنگ کا خضاب لگانے کی دلیل ابوداؤد کی درج ذیل حدیث ہے :

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے مندی سے اپنے بال رنگے ہوئے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : یہ کتنا ہی اچھا اور بہتر ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اور شخص گزرا جس نے مندی اور وسہ ملا کر بال رنگے ہوئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : یہ اس سے بہتر ہے، اور پھر ایک اور شخص گزرا جس نے اپنے بالوں کو زرد رنگ کا خضاب لگا رکھا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لگے : یہ ان سب سے اچھا اور بہتر ہے "

سنن ابوداؤد حدیث نمبر (4211) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشکاة المصابیح میں اس حدیث کو جید کہا ہے۔

اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ سفیدی کو کسی اور رنگ سے بدل جائے، اس میں مطلقاً رنگنے کا ذکر نہیں، چاہے بغیر سفیدی آئے ہی بالوں کو رنگ لیا جائے۔

دوم :

یہاں زیبائش و زینت وغیرہ میں ایک عمومی قاعدہ اور اصول کی طرف متنبہ رہنا ضروری ہے کہ اس میں وہ چیز ممنوع ہوگی جو حرام کے مشابہ ہو، مثلاً کفار یا فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

"جو شخص بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے"

سنن ابوداؤد حدیث نمبر (4031) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس خضاب یا رنگ کے جواز کے متعلق یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہیں وہ کفار یا فاسق قسم کے لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے تو نہیں کیا جاتا، یا وہ کام کسی اداکار اور موسیقار یا پھر کسی کھلاڑی وغیرہ کا طریقہ تو نہیں جنہیں آج کل کے نوجوان اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں؟

اسی طرح وہ خضاب یا بالوں کو رنگنا بھی منع ہے جو عورتوں سے مشابہت رکھتا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت سے منع کیا ہے اور ایسا کرنے والے پر لعنت کی ہے۔

دیکھیں : صحیح بخاری حدیث نمبر (5435)۔

سوم :

رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بالوں کو رنگنے اور خضاب لگانے کا تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو رنگا تھا یا نہیں؟  
ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق صحابہ کرام کا اختلاف ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو خضاب نہیں لگایا، اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا۔

اور حماد بن سلمہ نے حمید سے بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رنگے ہوئے دیکھے۔

حماد کہتے ہیں: اور مجھے عبداللہ بن محمد بن عقیل نے بتایا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دیکھے وہ رنگے ہوئے تھے"

اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے جس کی بنا پر آپ کے بال سرخ ہو گئے اس لیے ایسا گمان ہوتا تھا کہ انہیں خضاب لگا کر رنگا گیا ہو، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا۔

اور ابوہریرہ کہتے ہیں میں اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟

میں نے عرض کیا جی ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس پر زیادتی نہ کرو، اور نہ یہ تم پر زیادتی کرے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے سرخ بال دیکھے"

ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس باب میں سب سے بہتر یہی روایت کیا گیا ہے، اور میں اس کی تفسیر اور تاویل کرتا ہوں کیونکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید نہیں ہوئے تھے۔

حماد بن سلمہ سماک بن حرب سے بیان کرتے ہیں کہ: جابر بن سمرہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سفید بال تھے؟

تو ان کا جواب تھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سفید بال نہیں تھے، صرف مانگ کے درمیان چند ایک بال سفید تھے جو خوشبو اور تیل کی بنا پر تھے" انتہی

دیکھیں: زاد المعاد (1/169).

چہارم:

رہا یہ مسئلہ کہ سفید بال نہ ہوتے ہوئے بھی بالوں کو رنگنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اقتداء کی نیت کرنا، تو اس کے متعلق آپ یہ معلوم کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خضاب لگانے میں قوی اختلاف موجود ہے۔

پھر سنت میں بالوں کے رنگنے کا مقصد یہ نہیں کہ انہیں بغیر سفیدی کے ہی خضاب لگایا جائے، بلکہ سنت میں جو حکم وارد ہے اس سے مراد تو یہ ہے کہ سفیدی کو تبدیل کیا جائے، اور اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی جائے، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"سفیدی کو تبدیل کرو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو"

سنن نسائی حدیث نمبر (4986) جامع ترمذی حدیث نمبر (1674)

اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے سفید بال دیکھے تو فرمانے لگے:

"اسے کسی چیز کے ساتھ تبدیل کرو"

صحیح مسلم حدیث نمبر (3924)

اور بخاری شریف کی روایت میں ہے:

"بلاشبہ یہودی خضاب نہیں لگاتے لہذا تم ان کی مخالفت کرو"

صحیح بخاری حدیث نمبر (5448).

اس لیے اگر بال سفید نہ ہوں تو پھر بالوں کو رنگنا اور خضاب لگانا سنت نہیں، اور نہ ہی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا و پیروی شمار کیا جائیگا، کیونکہ یہ بغیر کسی وجہ سے کیا گیا ہے اور اس کا کوئی متقاضی ہی نہیں، اور اس لیے بھی سفید بالوں کو رنگ کر جو شرعی مصلحت حاصل ہوتی ہے وہ سفید بالوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

اور اگر اس میں کفار یا فاسق لوگوں سے مشابہت اور پھر کوئی صحت کو نقصان و ضرر نہ ہو تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ مباح ہوگا، لیکن اگر اس میں کفار کی مشابہت یا ضرر ہو تو یہ حرام ہوگا۔

واللہ اعلم.